

|           |   |                                             |
|-----------|---|---------------------------------------------|
| نام کتاب  | : | صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات                |
| مصنف      | : | سید جلال الدین عمری                         |
| ناشر      | : | ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی، علی گڑھ (انڈیا) |
| سال اشاعت | : | ۱۹۹۳ء                                       |
| صفحات     | : | ۳۸۸                                         |
| قیمت      | : | ۷۰ روپے                                     |

جب سے انسان اس کرہ ارض پر آباد ہے، وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، صحت مند یا مريض، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرض سے بچے اور یہی ش صحت مند رہے۔ کیونکہ مرض انسان کی رواں دواں زندگی کو معطل کر دیتا ہے اور کبھی کبھی تو اسے مرض کے سبب زندگی ہی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔

خالق انسان اپنی تخلوق کی اس کیفیت سے واقف ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

علم ان سیکون منکم مرضی۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے مريض ہوں گے۔  
چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے دور کے لوگ صحت و مرض کو خداۓ وحدۃ لاشریک کو چھوڑ کر اپنے باطل معبودوں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو انہوں نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے فرمایا:

وَاذَا مَرْضَتْ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (اور میرا معمود) جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفاء دیتا ہے۔

اس آئیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات میں گمراہی ہے اور آج اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت و مرض کا تعلق میڈیکل، طب و حکمت یا دیگر علوم سے ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میڈیکل یا طب و حکمت میں امراض سے شفاء دینے کی خاصیت اسی خداۓ واحد نے رکھی ہے جس نے مختلف امراض کو پیدا کیا ہے۔ انہی چیزوں کو حقیقی سبب سمجھ لینے سے لوگ ماضی میں گمراہ ہوئے اور یہی چیز آج انسان کو راہ راست سے دور

لے جا رہی ہے۔ ہم جب تک اسلامی تعلیمات کو سامنے نہ رکھیں گے ماضی کی طرح مختلف توهات کا شکار رہیں گے اور کوئی بھی ہمیں اس دلدل سے نہ نکال سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اگر مختلف امراض کو پیدا کیا ہے تو ان امراض سے شفایاب کرنے کے لئے مختلف ادویات بھی پیدا کی ہیں۔ شد کی کمی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس

اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔

قرآن مجید نے شد کے ذریعے مختلف امراض کا علاج اس وقت بتایا تھا جب دنیا تحقیق کے نام سے بھی آشنا نہ تھی اور آج جبکہ جگہ تحقیقی ادارے قائم ہو چکے ہیں تو ارشاد باری تعالیٰ کی صداقت کھل کر دنیا کے سامنے آچکی ہے۔

ڈاکٹر علی فرید لکھتے ہیں:

”شد اور شد کی کمی سے متعلق سب سے زیادہ تحقیق امریکہ روں، فرانس، یورپ اور دیگر مشرقی ممالک میں ہو رہی ہے اور ۱۹۸۵ء میں چین میں ایک ہسپتال صرف اس لئے بنایا گیا کہ وہ شد کے ذریعہ علاج اور شد کی کمی پر تحقیقات کو آگے بڑھائے اور ہسپتال کا نام ہی شد کے نام پر رکھا گیا ہے۔“

امام ابن قیم لکھتے ہیں:

یہ اسباب و علل کی دنیا ہے، اگر خرابی صحت کے اسباب ہیں تو علاج کیلئے بھی اللہ جل شانہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔

ارشاد رسالت مأب صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء“

الله تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض زمین پر نہیں آتا جس کے لئے شفا نہ اتاری ہو۔

ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا:

”نعم يا عباد الله تداوى و فان الله عزوجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد“ قالوا ما

ہو؟ قال: الہم۔

ہاں اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی شفافانہ ہو، سوائے ایک مرض کے۔ صحابہ کرام "نے سوال کیا۔ اے اللہ کے رسول وہ کون سا مرض ہے، فرمایا، بڑھا۔"

ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج جتنے امراض بھی پہلی ہوئے ہیں ان سب کا علاج ممکن ہے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ امراض کے پیدا ہونے کے بعد ان کا علاج کیا جائے اور دوسرا یہ کہ وہ تمام اختیالی تدابیر اختیار کی جائیں جو امراض سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتی ہوں۔ زیر نظر کتاب میں مصنف نے ان دونوں سوالوں سے بحث کی ہے۔

سید جلال الدین عمری کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ وہ کافی عرصے سے اسلامی تعلیمات کو مختلف پہلووں سے اجاگر کر کے اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے قلم سے اس سے پہلے مختلف اسلامی موضوعات پر اخمارہ کتبیں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں جن میں سے معروف و منکر، عورت اسلامی معاشرہ میں، اسلام اور عورت، اسلام کا شورائی نظام، اسلام کا عالمی نظام، مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اعتراضات کا جائزہ، خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ مجرد روحانیت کا قائل نہیں ہے۔ وہ جسم کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس نے انسان کی روحانی ترقی کے ساتھ اسکی جسمانی صحت کو بھی مناسب اہمیت دی ہے۔ وہ اسے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل ہی نہیں بلکہ صحت مند اور تو انا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کا زاویہ درست ہو تو جسمانی صحت و تو انا کی روحانی ترقی میں معاون ہوتی ہے اور باطن کے جلاء میں اس سے مدد ملتی ہے۔ اسی طرح اخلاقی اور روحانی اقدار کی پابندی صحت پر خوشنگوار اثر ڈالتی ہے۔

مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں:

"اسلام نے حفظان صحت کے جن اصولوں کی تعلیم دی ہے جدید طبی تحقیقات سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ اسلام خدا کا جامع، کامل اور آخری دین ہے۔ صحت و مرض سے متعلق اس کی تعلیمات اس دین کا ایک جزو اور اس کے مقاصد و مصالح سے پوری طرح ہم آھنگ ہیں۔ ان میں وہی روح جلوہ گر ہے جو پورے دین کی روح ہے۔"

اس کے بعد انہوں نے "موجودہ دور میں صحت اور مرض کے مسائل" کے عنوان سے ان اسباب کا تفصیل جائزہ لیا ہے جو صحت کی خرابی اور امراض کے انتشار کا باعث ہیں اور بتایا ہے کہ ان اسباب میں سے بعض اسباب صرف اسلامی تعلیمات سے روگروانی کا نتیجہ ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل ہو تو نہ اسباب باقی رہیں اور نہ یہ امراض۔

کتاب کے باب اول کا عنوان ہے "صحت اور اس کے اصول و آداب" اس میں انہوں نے سب سے پہلے صحت کی اہمیت کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے مختلف عناوین کے تحت ابجاگر کیا ہے۔ مصنف صفحہ ۵۷ پر لکھتے ہیں:

"اس وقت (حالت صحت میں) کسی خدا کے بندے کا اس کے دین کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی وقت و صلاحیت اور وسائل و ذرائع کو اس کے راست میں صرف کرنا بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس کے برخلاف اس وقت امور خیر کی اہمیت اور قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے جب بیٹھاپے کی وجہ سے جذبات سرد پڑ چکے ہوں، تنائیں اور آرزوئیں دم توڑ رہی ہوں، اور آدمی کاروبار دنیا سے فارغ ہو کر آخرت کے لئے رخت سفر باندھ رہا ہو۔"

اس کے بعد صحت کو باقی رکھنے اور امراض سے بچاؤ میں ان کی رائے میں سب سے اہم چیز صفائی ہے چنانچہ انہوں نے صفحہ ۵۵ سے ۸۵ تک اسلام کی ان تعلیمات کو بیان کیا ہے جو صفائی سے متعلق ہیں۔ خاص طور پر انسانی جسم، لباس اور جگہ کی صفائی اور اس میں غسل، وضو اور تمیم وغیرہ کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ احادیث رسول کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ مصنف صفحہ ۶۵ پر لکھتے ہیں:

"ان احادیث میں جسم کے مخصوص حصوں کی پاکی و صفائی کو انسان کی فطرت کما گیا ہے۔ اس سے انسان بعض جلدی اور بعض غیر جلدی امراض سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے جسمانی حسن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔"

ای طرح طمارت کی اہمیت کے تحت صفحہ ۶۸ پر لکھتے ہیں:

"بڑی عمر میں اور چھوٹی عمر میں بھی مثانہ اگر کمزور ہو تو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد

اس کے قدرے نکتے رہتے ہیں۔ پانی کے استعمال سے ان کو روکنے میں مدد ملتی ہے:-

مغلائی کے بعد انسان کی غذا کا مرحلہ آتا ہے۔ مصنف نے اس کے تمام پسلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جگہ جگہ آیات و احادیث سے استدلال کے ساتھ جلیل القدر حکماء، نقہا اور محدثین کی بیان کردہ حکمتیں بھی درج کی ہیں۔ غذا کے عنوان کے تحت وہ صفحہ ۹۹ پر لکھتے ہیں:

”اسلام نے ایک تو غذا کے بے قید استعمال پر تقدیم کی، دوسرا سے اس بات سے منع کیا کہ آدمی خود سے اس کے حدود و قیود وضع کرے اور حلال و حرام کا فیصلہ کرے، تیرے یہ کہ اس نے اس تصور پر ضرب لگائی کہ پاک چیزوں سے ابھتبا نیک اور تقویٰ کی علامت ہے“  
غذا کے ضمن میں آداب طعام بھی قلبند کئے اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ غذا کی سادگی کا ذکر کرتے ہوئے صفحہ ۱۱۰ پر لکھتے ہیں:

”اسلام ہر معاملہ میں سادگی چاہتا ہے، غذا کے بارے میں بھی اس کی بھی تعلیم ہے۔ پر ٹکلف اور مرغناں غذاؤں کا استعمال نہ صرف کہ مفید نہیں بلکہ سخت مضر اور نقصان دہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ کی غذا سادہ تھی۔“

اسی طرح خوب پیٹ بھر کر نہ کھانے کی حکمت پیان کرتے ہوئے صفحہ ۱۳۲ پر لکھتے ہیں:

”معدہ کافساد بست سی بیماریوں کا بہب بنتا ہے۔ اس حدیث پر عمل ہو تو معدہ نحیک رہ سکتا ہے اور آدمی ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو معدہ کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں۔“

مصنف نے کھانے کے بعد پینے کے آداب اور ان کی حکمتیں درج کی ہیں۔ برتن میں سانس لینے کی ممانعت کے تحت حدیث درج کرنے کے بعد صفحہ ۱۲۰ پر لکھتے ہیں:

”کوئی بھی چیز پینے وقت یہ بے احتیاطی عموماً ہوتی ہے کہ آدمی برتن ہی میں سانس لینے لگتا ہے اور مشروب گرم ہو تو پھونک مار کر اسے مٹھندا کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ یہ دونوں باتیں اصول صحت کے خلاف ہیں۔ ہماری سانس کے ذریعہ معدہ سے جراشیم نکتے رہتے ہیں۔ کسی مشروب میں سانس لینے سے یہ جراشیم اس میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح منہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اس سے بھی منہ کے جراشیم کا اخراج ہوتا ہے۔ پینے کی کسی چیز میں پھونک

مارنے سے یہ جراثیم اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔

ایک ہی سانس میں مشروب نہ پینے کی حدیث درج کرنے کے بعد حکمت بیان کرتے

ہوئے صفحہ ۱۶۱ پر لکھتے ہیں:

”پیاس کی شدت میں بعض اوقات آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی سانس میں پانی کا برتن خالی کر دے یا کوئی مشروب ہاتھ میں ہوتا سے ختم کر دے حالانکہ اس سے پیاس کم بھتی ہے اور پانی کے اچانک طبق میں پہنچنے سے نقصان کا اندریشہ رہتا ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ جو چیز بھی ہمیں ہو دو تین بار میں رک رک کر ہوڑی ہوڑی پی جاوے، اس سے پیاس اچھی بھتی ہے۔ آدمی آہستہ آہستہ خوب سیراب ہوتا ہے اور نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔“

کھانے پینے کے بعد صحت کے حصول اور امراض سے بچاؤ میں اہم کروار مصنف کی نظر میں کھیل کوڈ کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کھیل کوڈ کی اہمیت اور اس کی مختلف اقسام ذکر کرنے کے ساتھ دیگر تقریبات جیسے شادی، عید اور خوشی کے مواقع پر گانے بجائے کی شرعی حدود کو بھی بیان کر دیا ہے۔

کتاب کا دوسرا باب ”مرض اور اس کے احکام و مسائل“ پر مشتمل ہے۔ جس میں مصنف نے علاج کی شرعی حیثیت، احتیاطی مذایر احتیار کرنے اور خود کشی جیسے اہم مسائل سے بحث کی ہے۔ پھر علاج میں حلال چیزوں کے استعمال اور حرام سے اعتناب اور اس کی حدود کو مختلف فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

امراض کے متعدد ہونے اور خود کشی کے بارے میں مصنف کی بحث بڑی مفصل اور مدل ہے جس میں انہوں نے خود کشی کے بارے میں مستشرقین کے دلائل کا تاریخ پور بکھر دیا ہے۔ اس باب کی ایک اور بحث (اگر مریض کو شفاف نہ ہو تو کیا کسی قاتل دوا کے ذریعے اسے ختم کیا جا سکتا ہے) بھی بڑی محنت سے لکھی گئی ہے اور اس بارے میں اسلام کا فقط نظر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اس کے بعد روحانی علاج میں تعلق بالله، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید دم کرنے، قرآنی تعریز لکھنے، قرآن مجید دھو کر پلانے سے بحث کر کے علماء کے مختلف زاویہ نگاہ بیان کئے گئے ہیں اور ساتھ ہی مسنون دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ باب کے آخر میں احکام شریعت میں مریض

کی رعایت اور عیادت کی شرعی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ اس باب کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

"اسلام کا نظریہ نظریہ ہے کہ صحت خراب ہو تو آدمی دوا اور علاج کی فکر اور اہتمام کرے۔ اس نے دوا اور علاج کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی بلکہ اس کا معیار بھی مقرر کیا اور غیر مستند اطباء کو لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا ایک پلو یہ ہے کہ متعدد امراض میں اسلام نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس میں غفلت اور بے احتیاطی صحیح نہیں ہے اور یہ سب باتیں اس کے نزدیک تقویٰ اور دین داری کے معنی بھی نہیں ہیں۔"

اسلام اس بات کا مخالف ہے کہ آدمی مرض سے گھبرا کر یا زندگی سے بایوس ہو کر خود کشی کر بیٹھے۔ وہ اس بات کے بھی خلاف ہے کہ مرض کی شدت میں علاج کی جگہ مریض کی زندگی ختم کرنے کی تدبیر کی جائیں اور اسے مریض کے ساتھ ہمدردی سمجھا جائے۔ اس نے صبر و ثبات اور خدا پر توکل و اعتماد کے ساتھ مرض کے مقابلہ کی تعلیم دی ہے۔

اسلام کا حکم ہے کہ مباحثات کے ذریعہ علاج کیا جائے لیکن ناگزیر حالات میں محبتات سے بھی علاج کا جواز اس کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اس نے مریض کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ خدا سے اپنا تعلق استوار کرے۔ اسی سے صحت و عافیت کی دعا کرے۔ اسے شانی مطلق سمجھے اور یہ نیشن رکھے کہ صحت و تدرستی اسی کے ہاتھ میں ہے یہ دراصل روحانی علاج ہے۔

اسلام مریض کو ہمدردی کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اس نے صحت مند انسان کے مقابلہ میں مریض پر کم ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ بعض احکام میں اس کے ساتھ رعایت برتنی گئی ہے اور بعض احکام سے اسے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تعلیم ہے کہ مریض کو مصیبت اور کسپری کے حال میں نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کی عیادت اور مکمل خدمت کی جائے۔ اسے تسلی و تشفی دی جاتی رہے اور اس کے لئے دعائے صحت ہوتی رہے تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے دکھ درد میں کام آنے والے افراد اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے مریض کو جو سکون اور راحت ملتی ہے اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں۔

کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں وارد آیات و احادیث اور بیان کردہ حکمتوں کے مأخذ بتائے گئے ہیں اور کوئی بھی حدیث یا قول بلا حوالہ نقل نہیں کیا گیا۔

جن مسائل میں علماء میں اختلاف ہے وہاں مصنف نے اپنی مرضی کے قول کو ترجیح نہیں دی بلکہ مختلف زاویہ ہائے نگاہ کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے تاکہ قاری خود شرح صدر کے ساتھ فیصلہ کر سکے۔

کتاب کو سفید کاغذ پر چھپا گیا ہے اور طباعت دیدہ زیب ہے۔

کتابت کی اقلاط نہ ہونے کے برابر ہیں۔

آخر میں کتابیات کے عنوان سے جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی فہرست بھی درج ہے۔

البتہ کتاب کے مأخذ و مراجع کے اندر ارج میں کہیں کہیں تسلیم سے کام لیا گیا اور حوالے دینے وقت تحقیقی منبع کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ جمیع طور پر یہ کتاب ایک نہایت عمدہ کاؤش ہے۔

تاج الدین ازہری

